

161844-عربی زبان سکھانے کی فضیلت

سوال

کسی کو عربی زبان سکھانے کی فضیلت ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی آیت یا حدیث ہے؟ اور یہ بھی بتلائیں کہ اگر میں کسی کو پڑھانے کا کام لیکن وہ مجھے نہ پڑھانے تو اس کا کیا حکم ہے؟
جزاکم اللہ خیرا

پسندیدہ جواب

اول :

عربی زبان کی فضیلت کے لیے اتنا بیان کرنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے، اور یہ ہمیشہ قائمِ دائم رہنے والہ محبود ہے، قرآن کریم قیامتِ قائم ہونے تک لوگوں کے لیے نظامِ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اس نور اور بہادیت کے لیے منتخب فرمایا، اور تقریباً 10 جنگوں پر قرآن مجید میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے :

(وَلَقَدْ صَرَّ تَابِلَّا سِفْرَهُ الْفُرْقَانِ مِنْ گُلِّ مَثَلِ لَكَثِيمَ يَتَبَرَّكُونَ . قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عَوْنَ لَكَثِيمَ يَتَبَرَّكُونَ).

ترجمہ : یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہمہ قسم کے حالات ذکر کیے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کج روی نہیں ہے، تاکہ وہ تقویٰ اپنائیں۔ [الزمر: 27-28]

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کستہ میں :

"عربی زبان اسلام اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ "ختم شد
"اقضاء الصراط اَلْمُسْتَقِيم" (1/519)

ہم نے اپنی ویب سائٹ پر عربی زبان کی قدر و منزلت اور فضیلت میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے جو کہ آپ سوال نمبر: (90066) اور (130720) کے جواب میں پڑھ سکتے ہیں۔

دو: م

جب ہمیں عربی زبان کی فضیلت واضح ہو جائے گی تو ہمیں عربی زبان سکھانے والے کی شان و شوکت کا بھی اندازہ ہو جائے گا:

- عربی زبان کے معلم ہونے کی وجہ سے یہ شخص لوگوں میں فضیلت والی چیز پھیلانے کا باعث ہو گا، قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ بننے گا، اور ایسی زبان کو عام کرنے کا بب بننے گا جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔
- عربی زبان سکھا کر قرآن کریم حفظ کرنے اور سمجھنے میں مدد فراہم کرے گا، لوگ قرآن سیکھیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے، اسی طرح عربی زبان کا معلم حدیث نبوی کو سمجھنے، یاد کرنے، اور اس پر عمل کرنے میں بھی معاون ثابت ہو گا۔ تجوہ کوئی بھی علم کتاب و سنت سے تعلق رکھتا ہو یقیناً وہ علم قبل تعریف بھی ہے اور اسے اجر بھی ملے گا۔
- عربی زبان کا معلم بر اہ راست اسلامی علوم اور ثقافت کے ساری انسانیت میں پھیلاو کا باعث بنتا ہے؛ کیونکہ اسلام کا صحیح فہم عربی زبان کے فہم پر منحصر ہے، لہذا اگر کوئی شخص عربی زبان سیکھنے کے لیے معاونت پیش کرتا ہے تو در حقیقت وہ اسلام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور لوگوں میں خیر پھیلتی اور پھولتی ہے۔

- عربی زبان کی تعلیم سے صرف مسلم کو بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آس پاس کے سب لوگوں پر اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں، چنانچہ جس وقت عربی زبان کا متعلم عربی اور اسلامی کتابیں پڑھتا ہے تو جو ثقافت پڑھ رہا ہے اسی کو اپنے معاشرے کی زبان میں منتقل کرتا ہے، اور یہ بات یقیناً دین اور دعوتِ اسلام کے چھیلوڑ کا باعث بنتی ہے۔
- عربی زبان کے متعلم کو عربی سیکھنے پر اجر بھی ملتا ہے؛ کیونکہ یہ شخص عربی زبان میں ہی عبادات بجالاتا ہے، تو اس طرح عربی سکھانے والے کو بھی ان شاء اللہ اتنا ہی اجر ملے گا، اور متعلم یا معلم کسی کا معمولی اجر بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : (جو شخص کسی اچھے کام کی رہنمائی کرے تو عمل کرنے والے کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔) مسلم : (1893)

اگر کوئی شخص کسی بھی عذر کے بغیر عربی زبان سکھانے سے کتراتا ہے تو وہ شخص اپنے آپ کو نہایت گرماں قدر ثواب سے محروم کر لیتا ہے، اس طرح امت اور دین کے حق کی تلفی ہوتی ہے حالانکہ مسلمان کو عربی زبان سکھانے والا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو قرآن و سنت سے براہ راست استفادے کا موقع ملے، لیکن یہ شخص اس دین کو آگے پہنچانے کی بجائے سستی اور کاملی کا شکار ہو گیا ہے اور دعوت دین سے پسپانی اختیار کر لی ہے۔

واللہ اعلم